

Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- _____ 1243 /2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	23/08/2022	<p>The appeal of Mr. Najif Ali resubmitted today by Mr. Jehangir Khan Mohmnd Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench Peshawar on _____. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p> <p style="text-align: right;">By the order of Chairman</p> <p style="text-align: right;">REGISTRAR</p>

**BEFORE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL, PESHAWAR
CHECK LIST**

Case Title: _____ vs _____


S.#	Contents	Yes	No
1.	This appeal has been presented by: <u>Tehangiz Khan Ahmad Adw</u>		
2.	Whether Counsel / Appellant / Respondent / Deponent have signed the requisite documents?	✓	
3.	Whether Appeal is within time?	✓	
4.	Whether the enactment under which the appeal is filed mentioned?	✓	
5.	Whether the enactment under which the appeal is filed is correct?	✓	
6.	Whether affidavit is appended?	✓	
7.	Whether affidavit is duly attested by competent oath commissioner?	✓	
8.	Whether appeal/annexures are properly paged?	✓	
9.	Whether certificate regarding filing any earlier appeal on the subject, furnished?	✓	
10.	Whether annexures are legible?	✓	
11.	Whether annexures are attested?	✓	
12.	Whether copies of annexures are readable/clear?	✓	
13.	Whether copy of appeal is delivered to A.G/D.A.G?	✓	
14.	Whether Power of Attorney of the Counsel engaged is attested and signed by petitioner/appellant/respondents?	✓	
15.	Whether numbers of referred cases given are correct?		✓
16.	Whether appeal contains cuttings/overwriting?		
17.	Whether list of books has been provided at the end of the appeal?	✓	
18.	Whether case relate to this Court?	✓	
19.	Whether requisite number of spare copies attached?	✓	
20.	Whether complete spare copy is filed in separate file cover?	✓	
21.	Whether addresses of parties given are complete?	✓	
22.	Whether index filed?	✓	
23.	Whether index is correct?		
24.	Whether Security and Process Fee deposited? on		
25.	Whether in view of Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Rules 1974 Rule 11, notice along with copy of appeal and annexures has been sent to respondents? on		
26.	Whether copies of comments/reply/rejoinder submitted? on		
27.	Whether copies of comments/reply/rejoinder provided to opposite party? on		

It is certified that formalities/documentation as required in the above table have been fulfilled.

Name: _____

Tehangiz Khan Ahmad Adw

Signature: _____



Dated: _____

The appeal of Mr. Najaf Ali S/O Sharbat Ali, R/O Sarpakh P.O Sadda, District Kurram received today i.e. on 27.07.2022 is incomplete on the following score which is returned to the counsel for the appellant for completion and resubmission within 15 days.

1. Memorandum of the appeal is unsigned which may be signed by the appellant.
2. Checklist is not attached with the appeal.
3. Appeal has not been flagged/marked with annexure marks.
4. Annexures of the appeal may be attested.
5. Copies of page no. 09, 13, 15 and 17 attached with the appeal are illegible which may be replaced by legible/better one.
6. Two more copies/sets of the appeal along with annexures i.e. complete in all respect may also be submitted with the appeal.
7. Every memorandum of appeal shall be presented in approved file covers.

No. 2302 /S.T,


Dt. 29/07/2022


REGISTRAR
SERVICE TRIBUNAL
KHYBER PAKHTUNKHWA
PESHAWAR.

Mr. Jahingir Khan Mohmand Adv. Pesh.

Resubmitted After Completion

23/8/2022


Advoc:

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

SA No: 1243 /2022

Najaf AliAppellant

Versus


Khyber Pakhtunkhwa Police through Inspector General of Police,
KPK Peshawar and others..... Respondents

I N D E X

S.No.	Description of documents.	Annex:	Pages.
1.	Memo of appeal.		15
2.	Affidavit.		6
3.	Addresses of the parties.		87
4.	Copy of proof.	A	8
5.	Last posting order before merger	B	9
6.	Copy of the notification	C	10
7.	Copy of the statement of allegations and that of the charge sheet	D/1-D/2	11-12
8.	Copy of written statement/ reply to allegations	E	13-15
9.	Copy of the compromise deed	F	16
10.	Copies of the final show cause notice and reply	G-H	17-18
11.	Copy of the original impugned order	I	19
12.	Copy of the impugned appellate order	J	20-23
13.	Power of attorney		24
14.	Wakalatnama.		

Appellant

Through


Jehangir Khan Mohmand
Advocate High Court

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,

PESHAWAR

810
27/7/22

SA No: _____ /2022

Najaf Ali s/o Sharbat Ali

R/o Sarpakh PO Sadda, Kurram District.....Appellant

Versus

Khyber Pakhtunkhwa Police through,

- 1) Inspector General of Police, KPK Peshawar.
- 2) Regional Police Officer/ DIG Kohat Region, Kohat.
- 3) District Police Officer, Kurram District.
- 4) Inquiry Officer/ SP Investigation Kurram.....Respondents

**APPEAL U/S 4 OF THE KHYBER
PAKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL ACT, 1974.**

Respectfully submitted;

- 1. That the petitioner being bonafide resident and fully qualified was duly appointed as Khasadar in Kurram Levy Force from his tribal quota vide appointment order No. _____ dated 01/07/1984. (Copy of ^{Proof} ~~the order~~ is annexure A)
- 2. That petitioner thereafter fulfilled all the requisite formalities including medical/ character certification and surety bonds etc,

assumed the charge and started performing his duties with utmost zeal and to the entire satisfaction of his superiors and public as well and was lastly posted as Subedar in the year 2017 before the merger. (Last posting order before merger is annexure B)

3. That after the introduction of the 25th amendment to the constitution, the Khasadar Force was merged into the regular police service of the Khyber Pakhtunkhwa Police Service through provincial legislation.
4. That after the merger, the petitioner was awarded the rank of Sub Inspector in BPS-14 (and later on was given shoulder promotion as Deputy Superintendent of Police (DSP)) as per the notification vide notification no. SO (Police)HD/ SMY 2019 Merged Area/403-13 dated 14.02.2020. (Copy of the notification is annexure 'C')
5. That petitioner was lastly serving as acting DSP Upper Kurram when an unfortunate incident took place and the appellant was accused of using abusive language on mobile phone with a social media activist who used to post false and derogatory posts against the police department of Kurram District.
6. That the matter went viral in the local internet media and upon the application of the said social media activist, respondent no. 3 ordered an enquiry against the appellant by issuing a statement of allegations bearing no. 950/PA dated 19.04.2022 to the appellant and appointed respondent no. 3 as inquiry officer, followed by serving a charge sheet. (Copy of the statement of allegations and that of the charge sheet are annexure D-1 & D-2 respectively)
7. That the inquiry officer/ respondent no. 4 proceeded with inquiry and asked the appellant to submit written statement instead of personal

hearing, which the appellant provided denying all the allegations levelled in the complaint. (Copy of written statement/ reply to allegations is annexure E)

8. That it is pertinent to mention here that the subject issue/allegations were withdrawn/ compromised by the complainant through intervention of local Jirga and it was requested through the said compromise that the disciplinary proceedings may be dropped but even then respondents pursued the matter unilaterally and out of personal whims against the appellant. (Copy of the compromise deed is annexure F)
9. That during the so called inquiry proceedings, the inquiry officer/ respondent no. 4 acted in sheer disregard of impartiality and honesty when he deviated from the sole charge of use of Abusive Language in the statement of allegation/charge sheet and went astray and out of the way to add other/ previous allegations which were never accumulated in the charge/ statement of allegations by the competent authority against the appellant hence travelled beyond his allotted jurisdiction by holding the appellant guilty as charged.
10. That upon presentation of the so called inquiry report to respondent no. 3, a final show cause notice was issued against the appellant and the appellant was again asked to submit a written statement instead of personal hearing, which the appellant did. (Copies of the final show cause notice and reply thereof are annexure G and H respectively)
11. That upon the receipt of the said reply, respondent no. 3 passed the final impugned original order dated 19.05.2022- whereby the appellant was astonished to see that the original charge of use of

abusive language only with an individual was converted into blasphemy and inciting riots which never formed any part of the statement of allegations forming the charge sheet against the appellant and hence was reduced in rank from SI in BPS-14 to ASI in BPS-12 in sheer disregard of the law, rules and principles of justice and equity with special reference to FR-29. (Copy of the original impugned order is annexure D)

12. That the appellant impugned the above said order through a departmental appeal before the appellate authority/ respondent no. 2 but he too without looking into the matter fairly, dismissed the departmental appeal vide impugned appellate order dated 28.06.2022. (Copy of the impugned appellate order is annexure D)


13. Feeling aggrieved by the above, the appellant now approach this honourable court for setting aside the impugned orders on the following inter alia grounds;

GROUND


- a. Because the impugned original order dated 19.05.2022 and appellate order dated 28.06.2022 are against the law, equity and facts hence not tenable.
- b. Because the impugned orders are against the fundamental rights and service security guaranteed by the constitution.
- c. Because the impugned orders are arbitrary, whimsical, perverse, non-speaking and violative of the service laws and rules, principles of natural justice and have resulted in grave injustice to the appellant.

- d. Because the respondents have travelled beyond the charge sheet/ statement of allegations framed against the appellant and have introduced altogether new issues during and after the so called inquiry proceedings. The unqualified addition of blasphemy being a very serious crime and requiring stringent proof speaks loud of the ill-will, whims and personal vendetta on the part of the concerned respondents against the appellant.
- e. Because respondent no. 4 being inquiry officer did not bother to conduct forensic analysis of the alleged material and no investigation whatsoever was conducted to verify the voices of the parties to dispute, ownership of their cell numbers and context of the alleged abusive language charged against the appellant, hence the inquiry being against the law, incompetent, without any proof and based on surmises and conjectures is not at all qualified to be relied upon for imposing a major punishment of reversion to a lower grade.
- f. Appellant seeks permission to agitate further grounds at the bar.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of this appeal, the impugned original order dated 19.05.2022 and appellate order dated 28.06.2022 may be set aside and the appellant may be reinstated to his actual rank of SI in BPS-14 with all back and future benefits, along with any other relief deemed appropriate please.


Appellant

Through


Jehangir Khan Mohmand
Advocate High Court.

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

SA No: _____ /2022

Najaf AliAppellant

Versus.

Khyber Pakhtunkhwa Police through Inspector General of Police,
KPK Peshawar and others..... Respondents


AFFIDAVIT

I, Rajab Ali s/o Sharbat Ali R/o Sarpakh P.O. Sadda, Kurram District do hereby affirm and declare on oath that the contents of the accompanying **Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Hon'ble Court.

[Signature]
Deponent

Identified by:

[Signature]
Ishraq Khan Ahmad
Advocate.



7

BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,
PESHAWAR

SA No: _____ /2022

Najaf AliAppellant

Versus

Khyber Pakhtunkhwa Police through Inspector General of Police,
KPK Peshawar and others..... Respondents

ADDRESSES OF THE PARTIES

APPELLANT:

Najaf Ali s/o Sharbat Ali
R/o Sarpakh PO Sadda, Kurram District


RESPONDENTS:

Khyber Pakhtunkhwa Police through,

- 1) Inspector General of Police, KPK Peshawar.
- 2) Regional Police Officer/ DIG Kohat Region, Kohat.
- 3) District Police Officer, Kurram District.
- 4) Inquiry Officer/ SP Investigation Kurram

Appellant

Through


Jehangir Khan Mohmand
Advocate High Court.

SENIORITY LIST OF SUB INSPECTORS BPS-17 (AS STOOD ON 2019-20 & 21.)
KURRAM POLICE AS STOOD ON 2019-20 & 21.

S.#	P No	Name of Officer	Parentage	D.O.B	Date of Appointment	Date of Promotion
1	670881	Najaf Ali	Sharbat Ali	1966	01.07.1984	11.01.2017
2	671039	Niaz Muhammad	Sabir Khan	1964	01.08.1084	11.01.2017
3	670846	Ashiq Ali	Muhammad Hassan	1968	01.10.1984	11.01.2017
4	670785	Nazir Hussain	Wazir Ali	1966	01.07.1985	11.01.2017
5	670785	Siraj-U-Din	Sahib Din	1971	01.07.1985	11.01.2017
6	670600	Kafoor Khan	Saleem Khan	1966	01.09.1985	11.01.2017

Total sanction post of Inspector (Subedar Major) BPS-16..... 04

Total filled..... 01

Vacant post of inspector (Subedar Major)..... 03

[Signature]
District Police Officer
Kurram

[Signature]
District Police Officer
Kurram

ATTESTED

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
KURRAM TRIBAL DISTRICT.
No. 483 of 1951 Kurram Levy dated 18/5/51

ORDER


Sub to No. 483 of 1951 Kurram Levy dated 18/5/51. The Deputy Commissioner, Kurram Tribal District, has received a request from the officials of the Kurram Tribal District for the purpose of the levy.

Deputy Commissioner
Kurram Tribal District

For the purpose of the levy -

- 1. Assistant Commissioner, Upper Kurram
- 2. J.M. Kurram
- 3. Political Sub-Commissioners Upper Kurram
- 4. Official Concerned

Deputy Commissioner
Kurram Tribal District


18/5/51

Better Copy

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
KURRAM TRIBAL DISTRICT

No. 10081-84/Kurram Levy dated 18/08//2018

ORDER

Subedar Najaf Ali, is hereby directed to assume the charge of post of Incharge SM kurram Levy Force in Upper Kurram Sub Division with immediate effect on the best interest of public service.

**Deputy Commission
Kurram Tribal District**

No and date to even

Copy forwarded to the:

1. Assistant Commissioner, Upper Kurram.
2. TM Kurram.
3. Political Naib Tehsildars Upper Kurram.
4. Official Concerned.

**Deputy Commissioner
Kurram Tribal District**

10

~~Amir Khan~~ CC

20

ANNEX
C

**GOVERNMENT OF THE KHYBER PAKHTUNKHWA
HOME AND TRIBAL AFFAIRS DEPARTMENT**

NOTIFICATION

Peshawar dated the 14/2/2020

No.SO(Police)HD/SMY 2019 Merged Area 403-13 In pursuance of the provisions contained in section 9 of the Khyber Pakhtunkhwa Levies Force Act, 2019 (Khyber Pakhtunkhwa Act No.XXXV of 2019, read with rule 3 of the Levies Force (Absorption in the Khyber Pakhtunkhwa Police) Rules, 2019, the Home and Tribal Affairs Department, with the prior approval of the Cabinet and on the recommendation of the Provincial Police Officer, hereby orders absorption of the following members of Levies Force of Kurram Tribal District in the Khyber Pakhtunkhwa Police with effect from the date of the initial appointment of the said members:

S#	Name	Father's Name	Previous Rank	Rank in which Absorbed
1	Najaf Ali	Sharbat Ali	SUB BS-15	SI BS-14
2	Niaz Muhammad	Rahim Din	SUB BS-13	SI BS-14
3	Ashiq Ali	Muhammad Hassan	SUB BS-13	SI BS-14
4	Siraj Ud Din	Sahib Din	SUB BS-13	SI BS-14
5	Nazir Hussain	Wazir Ali	SUB BS-13	SI BS-14
6	Kafoor Khan	Salim Khan	SUB BS-15	SI BS-14
7	Naeem Hassan	Ali Faqir	N/SUB BS-11	SI BS-11
8	Suhbat Khan	Gul Baz Khan	N/SUB BS-11	SI BS-11
9	Rehmat Ali	Haidar Ali	N/SUB BS-11	SI BS-11
10	Hakim Hussain	Sarwar Khan	N/SUB BS-11	SI BS-11
11	Muhammad Ullah Jan	Jadran	N/SUB BS-11	SI BS-11
12	Sayed Jamal Hussain	S Hashim Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11
13	Haider Ghulam	Saidar Ali	N/SUB BS-11	SI BS-11
14	Ali Askar	Ghulam Akbar	N/SUB BS-11	SI BS-11
15	Abdul Nabi	Ali Nabi	N/SUB BS-11	SI BS-11
16	Mehboob Ali	Mardan Ali	N/SUB BS-11	SI BS-11
17	Nusrat Hussain	Nawab Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11
18	Imtiaz Hussain	Rajab Ali	N/SUB BS-11	SI BS-11
19	Mansab Ali	Muhammad Hamid	N/SUB BS-11	SI BS-11
20	Hidayat Hussain	Nijat Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11
21	Jamil Hussain	Nabi Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11
22	Shahir Hussain	Muhammad Ali Khan	N/SUB BS-11	SI BS-11
23	Shahir Hussain	Muhammad Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11
24	Jamal Hussain	Ali Hussain	N/SUB BS-11	SI BS-11

TESTED



OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA

Tel/Fax: 0926-311354*Email:policekurram1@gmail.com

No.950...../PA Dated Parachinar.19.4.2022

DISCIPLINARY ACTION

I **ARBAB SHAFIULLAH JAN DISTRICT POLICE OFFICER KURRAM** as competent authority, am the opinion that you **SI Najaf Ali (Shoulder DSP Upper Kurram)** have rendered yourself liable to be proceeded against departmentally under Khyber Pakhtunkhwa Police Rule. 1975 (Amended 2014) as you have committed the following acts/omissions.

STATEMENT OF ALLEGATIONS

An application submitted by local media reporter namely Syed Zulfiqar Hussain alias Zulfi wherein he stated that Najaf Ali Shoulder DSP Upper Kurram used an abusing language on mobile call as the recording is also available in reaction of one post of an Police officer posting. Which is unacceptable for Police personnel.


For the purpose of conduct inquiry with reference to the above allegation **SP Investigation Kurram** is appointed as Inquiry officer. The inquiry officer shall in accordance with the provision of the 1975 Police Rule, an inquiry initiated against you. You are provided reasonable opportunity of hearing to the above official within (07) days of the receipt of this order, recommendations as to punishment or other appropriate action against the official.

The official shall join the proceeding on the date, time and place fixed by the inquiry officer.


District Police Officer
Kurram

Copy to the:

1. Regional Police officer Kohat Region Kohat, please.
2. **SP Investigation Kurram:-** The Inquiry Officer for initiating proceedings against the official under the provision of Police Rule 1975.
3. **Official concerned:-** with the direction to appear before the Inquiry Officer on the date, time and place fixed by him for the purpose of inquiry proceedings.


District Police Officer
Kurram


District Police Officer
Kurram



12

D-2

**OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA**

Tel/Fax: 0926-311354*Email:policekurram@gmail.com

No.951...../PA Dated Parachinar...19-4-2022.

CHARGE SHEET

1. **I ARBAB SHAFIULLAH JAN DISTRICT POLICE OFFICER KURRAM** as competent authority under Khyber Pakhtunkhwa Police Rule 1975 (amended 2014), am the opinion that you **SI Najaf Ali (Shoulder DSP Upper Kurram)** had rendered yourself liable to be proceeded against as you have committed the following act within the meaning of Rule of the Police Rules 1975:

An application submitted by local media reporter namely Syed Zulfiqar Hussain alias Zulfi wherein he stated that Najaf Ali Shoulder DSP Upper Kurram used an abusing language on mobile call as the recording is also available in reaction of one post of an Police officer posting. Which is unacceptable for Police personnel.

2. By reason of the above, you appear to be guilty of misconduct under the 1975 Police Rule (amended 2014) and have rendered yourself liable to all or any of the penalties specified in the Police Rules.

3. You are, therefore, required to submit your written statement within (07) days of the receipt of this charge sheet to the inquiry officer.

Your written defense if any should reached the inquiry officer within the specified period, failing which it shall be presumed that you have no defense to put in and ex-parte action shall be taken against you.

4. A statement of allegation is enclosed.

20

ATTESTED

**District Police Officer
Kurram**

The first part of the paper is devoted to a general
 discussion of the problem. It is shown that the
 problem is equivalent to the problem of finding
 the minimum of a certain functional. This
 functional is defined by the following expression:

$$J(u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} f u dx$$
 where Ω is the domain of interest, ∇ is the
 gradient operator, and f is a given function.
 The problem is then reformulated as a problem
 of finding the minimum of $J(u)$ over the set
 of admissible functions. It is shown that this
 problem has a unique solution, and that this
 solution is the minimum of $J(u)$. The
 existence and uniqueness of the solution are
 proved by the method of the calculus of variations.
 The second part of the paper is devoted to the
 numerical solution of the problem. It is shown
 that the problem can be solved by the method of
 finite differences. The method of finite
 differences is applied to the problem, and the
 numerical solution is obtained. The numerical
 solution is compared with the exact solution, and
 it is shown that the numerical solution is in
 good agreement with the exact solution.

The author is indebted to the
 National Science Foundation for
 the support of this work.

بیان نجف علی شاہ DSP پر کرم

باقرار صالح بیان کرتا ہوں کہ فائسرجر کے بعد جب سے پولیس ضلع کرم میں آئی ہے روزاول سے سید ذوالفقار المعروف زلفی کرم پولیس کے پیچھے پڑا ہے اور کرم پولیس کو بے عزتی کرنے پر درپے ہے کئی بار میں ان کے ہاں گیا اور سمجھایا کہ وہ اپنی حرکات سے باز آجائے لیکن وہ منظم سازش کے تحت اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آتا۔

کچھ یوم قبل DSP کردعان کو انوسٹی گیشن سے ہیڈ کوارٹر DSP تعینات کیا جو کہ پولیس کے اعلیٰ آفسران اور تمام NDMS کے پولیس آفسران (سابقہ) کے مابین مرجر سے پہلے 22 نکاتی ایجنڈا طے ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ڈی پی او کے علاوہ تمام سٹاف لوکل ہو گا لہذا زلفی نے دانستہ طور پر کریمان ڈی ایس پی کی تقرری کا حکم نامہ سوشل میڈیا پر غلط انداز میں پیش کر رہا تھا کہ اسے DSP آپریشن لگایا گیا میں نے اس کو سمجھایا کہ اگر یہ آرڈر فائنا خاصہ دار کمیٹی والے دیکھے تو وہ دو دن کے اندر آکر احتجاج کریں گے لہذا Disinformation

اور بیان بازی سے باز رہے لیکن وہ بضد رہا جس کی وجہ سے میرا اور انکے مابین بمقام کچہری تلخ کلامی ہوئی باقی اور میں سید زلفی نے موبائیل پر گالی گلوچ کا جو ڈرامہ رچایا تھا وہ صرف اور صرف میری نہیں بلکہ کرم پولیس کی بدنامی کرنا چاہتا تھا جو کہ وہ روزاول سے کر رہا ہے میں نے موبائیل پروائس ایپ پر کوئی گندی زبان یا گالی نہیں دی ہے بلکہ سید زلفی پہلے سے غلیظ کاموں اور لوگوں کو بدنام کرنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور سوشل میڈیا پر گالی گلوچ شرکی کہ یہ نجف علی اور اسکے برادرز نے کی ہے چونکہ

سوشل میڈیا پر گالی گلوچ سے پولیس ڈیپارٹمنٹ کی بدنامی ہو رہی تھی لہذا

اس بار میں معروف DSP (دہشت گردی) میں 2019 میں NMD کے لیے

کرم میں ہی پولیس کا نظام شروع ہوا اور نئے نظام نے شروع میں پولیس کو مستحکم نہیں کیا

بلکہ وہ انفرادی طور پر اس کے جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ سب اس کے ذریعے ہی پولیس کو

کام کرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شروع میں ہی اس کے ذریعے ہی پولیس کو

صوبوں میں جانور کی صورت میں اس کو سمجھانے کی بجائے اس کو سمجھانے کی بجائے اس کو

کرتے سے باز نہیں آتا جس کو کہہ کر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کو کہہ کر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ

TTES

Better Copy

جناب عالی:

اس بارے میں معروض خدمت ہوں کہ 2019 میں دیگر NDMS کی طرح ضلع کرم میں پولیس کا نظام شروع ہوا اور نئے نظام کے شروع میں پولیس مستحکم نہیں تھی لہذا سید ذوالفقار المعروف زلفی جو کہ سوشل ایکٹوسٹ ہے اس نے روزاول سے پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھانا شروع کی اور ہر قسم کی بے عزتی پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی با امر مجبوری ہم نے اسکو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پولیس کی بے عزتی کرنے سے باز نہیں آیا جس کی وجہ سے اکثر ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے کچھ عرصہ قبل جناب ڈی پی او صاحب نے ڈی ایس پی کریمان علی کو ڈی ایس پی HQ تعینات کیا لیکن مذکورہ شخص نے ڈی پی او صاحب کو آرڈر غلط طریقے سے جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر شائع کیا اور لکھا گیا کہ کریمان علی کو ڈی ایس پی آپریشن تعینات کیا گیا آپ جناب کے علم میں ہے کہ فی الحال آفسران بالا NDMS کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ Operational Seat پر کوئی نان لوکل نہیں لگایا جائے گا اور جب سید زلفی کا یہ غلط خبر فیس بک پر شائع ہوا تو مجھے ادھر ادھر مختلف NDMS سے فون کالز آئے اور میں نے انکو سمجھایا کہ کسی کو بھی (OPS) DSP نہیں لگایا ہے بلکہ میں ہوں لیکن وہ زلفی کو ضد کی خبر کو بنیاد بنا کر وہ میری بات پر اعتبار کر رہے تھے لہذا میری ملاقات سید زلفی سے کچھری کے مقام پر ہوئی اور اسے استدعا کی کہ آپ کی غلط خبر میرے مسئلے بنائے ہے لہذا آپ اپنے پوسٹ کو درست کر کے کریمان علی کو DSP ظاہر کرے نہ کہ (DSP OB) لیکن اس نے میرے ساتھ انتہائی بد تمیزی شروع کی اور اسی اثناء میں میرے اور ان کے مابین سخت جملوں کا استعمال ہوا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سید زلفی نے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر بھی نازیبا گالی گلوچ شئیر کر کے مجھ سے منسوب کیا جو کہ غلط اور بے بنیاد ہے نہ میں نے موبائیل پر گالی گلوچ کی ہے اور نہ ہی مجھے پتہ چلا کہ روزاول کی طرح سے ہمیں اس کیس میں پھنسا یا گیا اور ایک ذمہ دار پولیس اس طرح ذمہ داری کا سوچ بھی نہیں سکتا اور مجھے ان الزامات سے بری الذمہ کیا جائے اور میں اس بارے میں آپ جناب سے Person Hearing کی درخواست بھی کرتا ہوں۔

Anjuman-e-Hussania

Parachinar District Kurram



بن حسین
پارچینار، ڈسٹرکٹ کرم

Ref No _____

Date 20-04-22

راضی نامہ

سید ذوالفقار حسین عرف زلفی
(فریق دوم)

جف علی DSP پر کرم، رجب علی برادر DSP
(فریق اول)

فریقین بالا کے مابین عرصہ دراز سے دوستی چلی آ رہی تھی کہ تین یا چار دن پہلے فریقین کے مابین موبائل پر گفتگو کے دوران غیر ارادی طور پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جس پر فریقین کے مابین کشیدگی پھیل گئی اور ان دونوں فریقین کی آپس میں کشاکش سے سوشل میڈیا پر دیگر Fake IDs والوں نے جلتی پرتیل چھڑکا۔ چونکہ دونوں فریقین معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مشران قوم نے دونوں فریقین کی وسیع مفاد میں محوری سپریم کونسل (انجمن حسینہ اور تحریک حسین) نے مداخلت کی اور کافی بحث و مباحثہ کے بعد دونوں فریقین نے ایک دوسرے کو تہہ دل سے معاف کیا اور دونوں نے اس واقعے کو غیر ارادی قرار دیا اور دونوں فریقین آپس میں بغض کی سیریز ختم کی۔

چونکہ معاملہ دو خاندانوں کے مابین باعث رنجش تھا اور ہم مشران قوم نے معاملے کو جڑ سے ختم کیا۔ لہذا ہم مشران قوم (پارچینار سپریم کونسل انجمن حسینہ اور تحریک حسین) محکمہ پولیس کے IGP/DIG/DPO سے التجاء کرتے ہیں کہ فریق اول کے خلاف محکماتہ کارروائی ختم کیا جائے۔ تاکہ فریقین کے مابین امن بھائی چارے کی فضاء قائم رکھ سکے۔


فریق دوم
سید ذوالفقار عرف زلفی

فریق اول
جف علی DSP پر کرم، رجب علی برادر DSP

دستخط صدر تحریک حسین سید مجمل حسین احسنی

دستخط سیکرٹری انجمن حسینہ عنایت علی محوری

ATTESTED



0926-310454

✉ aehussainia@gmail.com

Turi & Bangash Tribes

- 1) Duperzal
- 2) Ghundikhel
- 3) Ali Zal
- 4) Hamzakhel
- 5) Mastokhil
- 6) Bangash
- 7) Lalsani
- 8) Badakhel
- 9) Hazara
- 10) Khushi



OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA

Tel/Fax:0926-311364*Email:pollockurram@gmail.com

No. ...1170.....Dated Parokinar.16.5.2022

FINAL SHOW CAUSE NOTICE:

I Arbab Shafiqullah Jan District Police Officer, Kurram as competent authority under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 (amended 2014) is hereby serve you. SI Najaf Ali posted as acting DSP Upper Kurram district Kurram

Reference Disciplinary Action No. 950/PA dated 19.04.2022 and Charge Sheet No. 951/PA dated 19.04.2022,

That consequent upon the completion of Inquiry conducted against you by the Inquiry Officer/SP Investigation Kurram vide No 333/SP/Invr/Kurram dated 11.05.2022 for which you were given opportunity.

As per the inquiry findings of the Inquiry Officer, the material on record and other connected papers including your defense, the Inquiry officer recommended for major punishment and I am satisfied that you have proved guilty as charged against you.

As a result thereof I as competent authority have tentatively decided to impose upon you major penalty provided under rules ibid.

You are therefore, required to show cause as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you also intimate whether you desire to be heard in person if no progress to this notice is received within (07) days of its delivery in the normal course of circumstances, it shall be presumed that you have no defense to put in and in that case ex-parte action shall be taken against you.

In this regard you are directed to submit your reply within (07) days of its delivery if failed for the undersigned was not satisfied from your reply, action shall be taken against you as per Police Rules.

(ATTESTED)

Better Copy

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA
Tel/Fax:0926-311384 gmail: policekurram@gmail.com
No. 1170 Dated Parachinar 16/05/2022

FINAL SHOW CAUSE NOTICE

I, **Arbab Shafiullah Jan District Police Officer, Kurram** on complaint authority under Khyber Pakhtunkhwa Police Rules 1975 (amended 2014) is hereby serve you SI Najaf Ali posted as acting **DSP Upper Kurram** district Kurram.

Reference Disciplinary Action No. 951/PA dated 19.04.2022 and Charge Sheet No. 951/PA dated 19.04.2022.

The consequent upon the complaint of inquiry conducted against you by the Inquiry Officer/SP Investigation Kurram vide No. 333/SP/Inv/Kurram dated 11.05.2022 for which you were given opportunity.

As per the inquiry findings of the inquiry Officer, the material on record and other connected papers including your defense, the Inquiry officer recommended for major punishment and I am satisfied that you have proved guilty as charged against you.

As a result thereof I as competent authority have tentatively decided to impose upon you major penalty provided under rules ibid.

You are thereof, required to show cause notice as to why the aforesaid penalty should not be imposed upon you also intimate whether you desire to be heard in person if no progress to this notice is received with in (07) days office of its delivery in the normal course of circumstances, it shall be presumed that you have no defense to put in and that case ex-parte action shall be taken against you.

In this regard, you are directed submit you apply of this notice within (03) days positively if failed or the undersigned was not satisfied from your reply. This order shall be taken against you as per police rules.

بھنور جناب ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کوہاٹ ریجن کوہاٹ

عنوان: ڈیپارٹمنٹل اپیل برائے منسوخ کرنے حکم جناب DPO صاحب 179 OB: 19-05-2022 محرر جسمیں

سائل کو سب انسپکٹر سے تنزیلی کر کے اسٹنٹ انسپکٹر بنایا اور حکم مجاریہ میں تمام زمینی حقائق اور قانون کو بری طرح منسوخ کیا گیا۔

1. یہ کہ میں 1984ء میں کرم لیوی فورس میں بھرتی ہوا۔ رفتہ رفتہ ترقی پا کر 2017 میں صوبیدار (SI) پروموٹ ہوا۔
2. یہ کہ 2018ء میں کرم لیوی فورس میں سینئر ترین صوبیدار تھا 25 ویں ترمیم کے بعد NMDs میں پولیس کی آمد سے ایک دن قبل سینئر صوبیدار (SI) ہونے کے واسطے دیگر اضلاع کی طرح IGP صاحب KPK نے مجھے DSP شولڈر لگایا۔ اور نہایت جانفشانی سے ڈیوٹی سرانجام دیتا ہوا اور میری کارکردگی کے صلہ میں جناب IG/DIG صاحبان نے CC I, CC II اور سرٹیفکیٹس سے بھی نوازا۔
3. پولیس آمد کے اوائل میں پولیس کو سخت ترین حالت کا سامنا تھا لیکن دن رات ایک کر کے نئے نظام کو پختہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔
4. سید ذوالفقار المعروف زلفی جو کہ میڈیا پر پور پور ہے۔ روز اول سے پولیس کا سخت مخالف رہا۔ نظام نیا تھا لیکن سید زلفی نے پولیس کی بدنامی میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ بار بار سمجھایا لیکن ایک منظم سازش کے تحت وہ پولیس کی بدنامی پر نکلنا تھا۔ لیکن جسکی وجہ سے ہمارے تعلقات کشیدہ رہے۔
5. بمورحہ: 13-04-2022 جناب DPO صاحب نے ریگولر پولیس کے ایجنٹ DSP کرمان علی کو DSP - HQ لگایا۔ لیکن سید زلفی نے اپنے فیس بک پیج پر ادا تا غلط خبر شائع کی کہ کرمان علی کو DSP آپریشنز لگایا گیا۔
6. میں نے سید زلفی سے کہا کہ پوسٹ کو صحیح کرے لیکن اس نے درست کرنے کی بجائے اٹاڈ حکمی دی۔ کہ میں صحافی ہوا اور صحافی کیساتھ بچہ آزمائی نہ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات پر میرے اور اس کے مابین معمولی تلخ کلامی ہوئی اور بات ختم ہوئی۔
7. رات کو دو سوتوں نے کال کر کے خبر دی کہ سید زلفی نے میرا اور میرے بھائی کا تصویر لگا کر آپ کے اور آپ کے بھائی رجب علی کی کالی واٹس ایپ / فیس بک پر نشر ہو رہی ہے۔ جو کہ بری بات ہے۔ جب ہم نے فیس بک دیکھا تو سید زلفی نے منظم سازش کے تحت نازیبا کالی گلوچ ریکارڈ کی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ DSP اور اسکا بھائی مجھے کالیاں دے رہا ہے۔ چونکہ پولیس افسران کے خلاف یہ قدم مناسب نہ تھا لہذا نا کردہ گناہ پر مشران نے مجھ سے رابطہ کیا۔ سید زلفی کو بھی بلایا اور ہمیں اکٹھا بٹھا کر سمجھایا۔ اور گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو تہہ دل سے معاف کیا اور راضی نامہ میں میرے اور سید زلفی کے دستخط کیساتھ ساتھ پارا چنار سپریم کونسل کے مشران نے بھی دستخط کئے اور معاملہ ختم ہوا۔
8. جناب DPO صاحب نے میرے خلاف حکمانہ کارروائی شروع کی۔ میں نے Personal Hearing کی استدعا کی۔ کہ مجھے شننے موقع دیا جائے لیکن DPO نے شننے بغیر مجھے SI سے ASI بنایا۔ جو کہ آئین پاکستان اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔
9. جناب DPO صاحب کو چاہئے تھا کہ جب اس جعلی معاملے کو قوم کے مشران نے ختم کیا۔ تو DPO تصفیہ شدہ معاملے کو دوبارہ نہ چھڑتا لیکن منظم سازش کے تحت DPO نے مجھے سیٹ سے ہٹانے کیلئے یہ سارا پارا گرام کیا حالانکہ ان 38 سالوں میں میں نے سرکاری ڈیوٹی میں کئی دشمنیاں مول لی ہیں۔ اور اب میرا اپنا حکم میرے پیچھے پڑا ہے۔

البتہ:- زمینی حقائق کچھ اور ہے اور ہم سے منسوب کردہ کالی گلوچ جس کا ہمیں خبر نہیں ہے کچھ اور ہے۔

لہذا عاجزانہ استدعا ہے کہ میری 38 سالہ خدمات کو مدنظر رکھ کر حکم جناب DPO صاحب 179 OB: 19-05-2022 کو

منسوخ قرار دے کر مجھے دوبارہ SI کی سیٹ پر جملہ سابقہ مراعات کیساتھ بحال کیا جائے۔

ATTESTED

سائل نجف علی / Acting DSP / ASI کرم

(10) شوکار، فائنل شوکار میں جمعہ پر صرف یہ الزام تھا کہ میں نے سید ذوالفقار کو ہتھیار دیا اور اسے ہتھیار دیا جو سینئر افسران میں انوکھوں آئینہ نہ جمعہ پر مزید الزامات کے لئے انبار لگائے گئے۔ جس کا منہ تو شوکار میں ڈر ہے اور نہ فائنل شوکار میں۔ تاکہ میں صفا ہی پیش کرتا۔

ANNEX (1)

POLICE DEPTT:

KOHAT REGION


ORDER.

This order will dispose of a departmental appeal, moved by ASI Najaf Ali (Ex-SI) of district Kurram against the punishment order, passed by DPO Kurram vide OR No. 179, dated 19.05.2022 whereby he was awarded major punishment of reduction from the rank of SI to ASI on the allegations of using abusive language with one Syed Zulfikar (Media Reporter) recording of which is also available with him.

He preferred appeal to the undersigned, upon which comments were obtained from DPO Kurram and his service record were perused. He was also heard in person in Orderly Room, held in this office on 28.06.2022. During hearing the appellant did not advance any plausible explanation in his defense to prove his innocence.

I have gone through the available record which indicates that the allegations leveled against the appellants are proved beyond any shadow of doubt. Moreover, the appellant has blemished service history and a number of times he has been awarded various punishments including discharge from service, but he did not mend himself. The competent authority has already taken a lenient view while awarding punishment to him. Therefore, in exercise of powers conferred upon the undersigned, his appeal being devoid of merit is hereby rejected.

Order Announced
28.06.2022



(TAHIR AYUB KHAN) PSP
Region Police Officer,
Kohat Region.

No. 9710 /EC, dated Kohat the 28/06 /2022.

Copy to District Police Officer, Kurram for information and necessary action w/r to his office Letter No. 562/SRC, dated 15.06.2022. His Service Record is returned herewith.

Encl 3. Book - 2
Enquiry File (36 Pages)

ATTESTED


(TAHIR AYUB KHAN) PSP
Region Police Officer,
Kohat Region.



12/20
ANNEX: J

OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA

Tel/Fax: 0926-311354*Email:policekurram@gmail.com

OFFICE ORDER

Reference this office Disciplinary Action No. 950/PA dated Parachinar 19.04.2022, Charge Sheet No. 951/PA dated Parachinar the 19.04.2022 and final Show Cause No. 1170 dated Parachinar 16.05.2022 with the following charges as "An application submitted by local media reporter namely Syed Zulfiqar Hussain alias Zulfi wherein he stated that SI Najaf Ali used an abusing language on mobile call as the recording is also available in reaction of one post of an Police officer posting which is unacceptable for Police personnel".

That consequent upon the completion of inquiry conducted against you by the inquiry officer for which you were given opportunity vide Inquiry No. 333/SP/Inv/Kurram dated 11.05.2022.

On going through the findings and recommendations of the inquiry officer, the material on record and other connected papers including your defense the inquiry officer I am satisfied that you have proved guilty as charged against you.

The inquiry has completed by the inquiry officer and you have given complete opportunity to defense yourself before the inquiry officer.

On the completion of inquiry No. 333/SP/Inv/Kurram dated 11.05.2022, by inquiry officer and determined the facts from statements and evidences that SI Najaf Ali committed blasphemy which feared riots amongst the Sayed/Pashtoon and Shia/Sunni. As a result of the blasphemy, an attack of hand grenade has also took place on the house of him on 22.4.2022 and case registered No. 74 dated 22.4.2022 u/s 324, ¼ Exp PS Upper Kurram. This has proved him guilty and extremely violated the discipline of Police. The Inquiry officer recommended him for major punishment and the statement was also recorded by SI Najaf Ali in compliance with the final Show Cause notice No. 1170 dated Parachinar 16.05.2022 which is not satisfied.

Similarly, an another inquiry No. 350/SP/Inv:/Kurram dated 19.05.2022 conducted by SP Investigation and as per inquiry report has also found guilty for abusing language with Jamshid Ali monitoring officer BISP programme, Parachinar.

I Mr. Arbab Shafiullah Jan District Police Officer Kurram as competent authority under Khyber Pakhtunkhwa Police Rule 1975 amended vide notification No. 3859/Legal, dated 27.08.2014 issued by IGP. KPK SI Najaf Ali is hereby reduced the rank from Sub Inspector to Assistant Sub Inspector in the same time scale of pay with immediate effect

District Police Officer
Kurram


OB. No. 179
Dated 19.05.2022

Copy forwarded to the:

1. Regional Police officer Kohat Region Kohat.
2. SP Investigation Kurram Police w.r.t his Inquiry cited above.
3. District Account officer Kurram.
4. All DSPs/SHOs in Kurram.
5. RI/SRC/Pay Officer/OASI Kurram Police for necessary action on their part.
6. Official concerned

District Police Officer

ATTESTED



21 27
2022

**OFFICE OF THE
DISTRICT POLICE OFFICER
KURRAM, KHYBER PAKHTUNKHWA**

Tel/Fax: 0926-311354*Email:policekurram1@gmail.com

OFFICE ORDER.

As SI Najaf Ali shoulder DSP Upper Kurram is under inquiry so, he is closed to Police Line Parachinar with immediate effect.

SI Mazhar Ali is hereby directed to look after as DSP Upper Kurram till further order.


District Police Officer
Kurram

OB No. 145
Dated 19.04.2022

No. & date is even:

Copy forwarded for favor of information to the:

1. Regional Police officer Kohat Region, Kohat.
2. SP Investigation Kurram.
3. All DSPs in Kurram.
4. All SHOs in Kurram.
5. Official concerned


District Police Officer
Kurram


ATTESTED



23 22


DISTRICT HEAD QUARTER HOSPITAL PARACHINAR
KURRAM MERGED AREA

Phone office 0926 311468 Email. msahqpcr468@gmail.com.


MEDICAL CERTIFICATE.


It is certified that I examined Mr Najaf Ali S/O Mr Sharbat Ali
resident of Parachinar District Kurram to day on 19th July 2022 vide Emergency NO 3830.


He has low back pain and is advised a complete Bed rest for one month besides medications
for his better recovery.


Dr Shujat Ali
Orthopedic Surgeon
DHQ Hospital Parachinar.

Countersigned


Medical Superintendent
District Headquarter Hospital,
District Head Quarter Hospital
Parachinar
Date Parachinar ___/20


ATTESTED



مختیار نامہ خاص برائے پیروی مقدمہ

منکہ (1) نجف علی ولد شربت علی سکندھ محرا ملائند اپر کرم پارا چنار ضلع کرم درینوقف بقا کی خوش و حواس اترار کر کے لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ایک مقدمہ زیر سماعت ہے جس میں بوجہ بیماری از خود عدالت حضور میں پیش ہونے سے قاصر ہیں۔ لہذا اپنی جانب سے سنی۔ جب علی ولد شربت علی سکندھ محرا ملائند پارا چنار ضلع کرم کو مقدمے میں مختیار خاص مقرر کر کے اختیار دیتا ہوں کہ وہ میرے جانب سے مقدمہ کی پیروی کرے، بیان دیوے، راضی نامہ کرے، جواب الجواب داخل کرے، مقدمہ اپیل داخل کرے، وکیل مقرر کرے، بیان حلفی جمع کرے، شہادت دیوے، درخواست جواب درخواست دیوے نیز جملہ کاروائی جو وقتاً فوقتاً ضروری ہو کرنے کا مجاز ہے۔ اپیل نگرانی نظر ثانی کرے، مقدمہ بے دخلی دائر کرے، اجراء کرے، عذر داری داخل کرے، خرچہ خورا کہ داخل کرے اور خلاف دائر شدہ مقدمات میں پیروی اور جواب دی وغیرہ داخل کرے اور من اختیار دہندہ اس کی جملہ اقدامات کی کاروائی کی پابند رہے گا۔ مختیار موصوف عدالت ابتدائی سے تاعدالت عالیہ و سپریم کورٹ آف پاکستان میں کاروائی کی پابند رہے گا۔

مختیار موصوف عدالت ابتدائی سے تاعدالت عالیہ و سپریم کورٹ آف پاکستان میں کاروائی کی پابند رہے گا۔ لہذا مختیار نامہ خاص بحق۔ جب علی ولد شربت علی سکندھ محرا ملائند۔ پارا چنار ضلع کرم دیا تاکہ سند آ رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔

المرقوم 19 07 2022
3-0736307-03
العبد اختیار گیر بندہ

1-0404689-303
العبد اختیار دہندہ نجف علی

نجف علی ولد شربت علی

نجف علی ولد شربت علی

گواہ نمبر 2۔


پتہ نوٹریٹ قمار دستہ ضلع




شناختی کارڈ نمبر 3-6356475-21303

گواہ نمبر 1۔


پتہ

شناختی کارڈ نمبر 3-672477-21303



قیمت 50 روپے	11369			
ایڈوکیٹ: <u>میا ننگہ خان ہمندر</u>		پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ		
بار کونسل / ایسوسی ایشن نمبر: <u>BC-106921</u>				
رابطہ نمبر: <u>03009594039</u>				

بعدالت جناب: سر سید ٹریبونل پشاور

منجانب: <u>نجف علی</u>	دعویٰ:
	علت نمبر:
	مورخہ:
	جرم:
	تھانہ:
	باعث تحریر آنکہ

Handwritten signature and notes on the right margin.

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کاروائی متعلقہ
 آن مقام گنیشاہ کیلئے محمد میا ننگہ خان ہمندر رٹرنہ لکھ کر کوڈیکل مقرر
 کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کاروائی کا کامل اختیار ہوگا، نیز وکیل صاحب کو
 راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ برحلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور درخواست از ہر قسم کی تصدیق
 زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی، نیز
 دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی
 کاروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب
 مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ با اختیار حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پرداختہ منظور و قبول ہوگا
 دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جانہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔ کوئی تاریخ پیشی مقام دورہ یا حد سے
 باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کریں، لہذا وکالت نامہ لکھ دیا تاکہ سند رہے

المرقوم: 22/7/2020

العبد گنیشاہ شد العبد

مقام پشاور کے لیے منظور ہے۔

Attested